

BankIslami

PAKISTAN'S
**BEST ISLAMIC
BANK** CERTIFIED BY
EUROMONEY



2026

شیڈول برائے
بینک پارہیز

یکم جنوری تا ۳۰ جون ۲۰۲۶

SAVING HUMANITY
FROM **RIBA**

آئیں انسانیت کو
سود سے بچائیں

فہرست

1-	اندرون ملک ترسیلات	04
2-	کلکیشن اور دیگر خدمات	04
3-	کیش مینجمنٹ اور ایمپلائی بینکنگ سروس چارجز.....	07
	الف) کیش مینجمنٹ	07
	ب) ایمپلائی بینکنگ سروسز- موٹر سائیکل اور پائیدار سامان کی فنانسنگ	07
4-	ڈیجیٹل ڈیلیوری چینلز.....	07
	الف) اجراء/سالانہ سبکدوش اور تبدیلی (کارڈز کے لیے)	07
	ب) بینک اسلامی ڈیٹ کارڈز - فی ٹرانزیکشن چارجز	07
	ج) تنازعہ (ڈسپیوٹ) پروسیسنگ چارجز (فی ٹرانزیکشن)	08
	د) ون ٹچ بینکنگ	08
	ر) کال سینٹر / IVR.....	09
5-	فنانسنگ	09
	الف) کنزیومرفنانس.....	09
	الف-الف) آؤ فنانس	09
	الف-ب) ہاؤسنگ فنانس (مسکن).....	11
	الف-ج) اسلامی سکیورڈ پرسنل فنانس	11
	الف-د) ہائیک فنانس	12
	الف-ر) اسلامی ان سکیورڈ پرسنل فنانس	12
	الف-س) گولڈ فنانس	12
	الف-ص) سولر فنانس	12
	ب) کارپوریٹ/ایس ایم ای فنانسنگ/ فلیٹ فنانسنگ.....	12
	ب-الف) گاڑیاں	12
	ب-ب) دیگر آلات	13
6-	فنانسنگ پر متفرق چارجز	14
7-	سیف ڈپازٹ لاکرز	14
8-	تجارتی خدمات	15
	الف) درآمدات	15
	ب) اندرون ملک تجارت	20
	ج) برآمدات	21
	د) لیٹر آف گارنٹی	22

- 9۔ بین الاقوامی ترسیلات 25
- 10۔ ڈاک اور مواصلات 26
- الف (کوریئر چارجز (تمام مقامات کے لیے) 26
- ب (رجسٹرڈ پوسٹ 26
- ج (سوئفٹ (SWIFT) چارجز 27
- د (RTGS چارجز 27
- ر (فیکس چارجز 27
- س (ٹیلی فون چارجز 27
- 11۔ BIPL اسٹاف کے لیے (صرف تنخواہ کا اکاؤنٹ)..... 27
- 12۔ بینک اسلامی ترجیحی بینکاری 28
- الف (ترجیحی بینکنگ کسٹر ریلییشن شپ کا معیار 28
- ب (ترجیحی بینکنگ فیس پر چھوٹ 28
- ج (کنزیومر بینکنگ مصنوعات پر چھوٹ 29
- 13۔ بینک اسلامی مشعل - خواتین کی بینکاری 29
- الف (ڈپازٹ پروڈکٹس 29
- ب (کنزیومر فنانس 30
- ج (کاروبار فنانس 30
- 14۔ زرعی فنانسنگ 31
- 15۔ جین Z اکاؤنٹ 31
- 16۔ Aik چارجز کا شیڈول 32
- 17۔ ہمسفر، سفر ابھی، ادائیگی بعد میں 33
- 18۔ نوٹس 33

۱۔ اندرون ملک ترسیلات

100/- روپے	الف (پے آرڈر کا اجرا
100/- روپے	اسلامی کرنٹ اکاؤنٹ
100/- روپے	اسلامی سہولت اکاؤنٹ
100/- روپے	اسلامی بچت اکاؤنٹ
100/- روپے	اسلامی خیر کرنٹ اکاؤنٹ
10,000/- روپے تک:	ب (ڈیمانڈ ڈرافٹ (DD) / ٹیلی گرافک ٹرانسفر (TT) کا اجرا
30/- روپے (فلیٹ) + کرسپانڈنٹ چارجز اصل کے مطابق	
10,001/- روپے سے 100,000/- روپے تک	
0.20 فیصد کم از کم -50/- روپے + کرسپانڈنٹ چارجز، اصل کے مطابق	
100,000/- روپے سے زائد	
0.25 فیصد - کم از کم -300/- روپے	
یہ سہولت فراہم نہیں کی جاتی۔	ج (نقد کے عوض ڈرافٹ، MTs اور TTs
400/- روپے	د (ڈیمانڈ ڈرافٹ اور پے آرڈر کی منسوخی
300/- روپے	ر (ڈپلیکیٹ ڈیمانڈ ڈرافٹ
300/- روپے	س (ڈپلیکیٹ پے آرڈر
مفت	ص (تعلیمی اداروں کی فیس کی وصولی
مفت	ط (تعلیمی اداروں کے پے آرڈر کا اجرا
فیس/باقیاجات 0.50 فیصد یا 25 روپے فی انسٹرومنٹ (جو کم ہو)	ع (تعلیمی اداروں، ایچ ای سی (HEC) / بورڈ کے ڈیمانڈ ڈرافٹ یا دیگر انسٹرومنٹ کا اجرا

۲۔ کلکیشن اور دیگر خدمات

ڈالر انسٹرومنٹ: (کم از کم 25 امریکی ڈالر + کرسپانڈنٹ چارجز، اصل کے مطابق + کوریئر چارجز)	الف (کلکیشن کلین چیک / ڈیمانڈ ڈرافٹ (FBC) کے لیے غیر ملکی بل
دیگر کرنسی انسٹرومنٹ: انسٹرومنٹ کا 0.3 فیصد، کم از کم -400/- روپے، زیادہ سے زیادہ -1,500/- روپے + کوریئر چارجز + غیر ملکی کرسپانڈنٹ چارجز اصل کے مطابق (اگر ہوں)۔	i (کلکیشن چارجز (کلین چیک)
اصل کے مطابق	ii (غیر ملکی کلین چیکس واپسی کے چارجز
200/- روپے (فلیٹ) بشمول کوریئر چارجز	ب (مقامی بلز کی کلکیشن / کلین چیک (LBC)
کرسپانڈنٹ چارجز اصل کے مطابق	ج (کلکیشن کی بلا ادائیگی واپسی پر آنے والے کلین آئٹمز (مقامی)
500/- روپے (فلیٹ)	د (ایس بی پی / این بی پی کے چیک کا اجرا
انورڈ کلیئرنگ / کیش چیک -500/- روپے (فلیٹ)	ر (چیک واپس ہونے کے ایڈمنسٹریٹو چارجز
آؤٹ ورڈ کلیئرنگ مفت	س (خصوصی کلیئرنگ چارجز بذریعہ این آئی ایف ٹی (بشمول چیک واپسی کے چارجز اگر کوئی ہیں)
375/- روپے فی چیک / انسٹرومنٹ	

-/50 روپے فی آئٹم

-/40 روپے

یہ سہولت میسر نہیں ہے۔

مفت

بینک اسلامی کے ذریعے بھیجی گئی رقم کا 0.50 فیصد تک۔

کم از کم -/15,000 روپے

کوئی نہیں

مفت

-/200 روپے فی سرٹیفکیٹ

-/1,250 روپے سالانہ (قابل وصول چھ ماہ یا اس سے کم)

-/2,000 روپے سالانہ

پہلی چیک بک مفت (دس صفحوں والی) بشرطیکہ کسٹمر 30 دن کے اندر
چیک بک وصول کر لے بصورت دیگر -/20 روپے فی صفحہ کے حساب
سے چارج کیا جائے گا۔ اگلی چیک بک کا اجرا -/20 روپے فی صفحہ۔

پروسیسنگ چارجز -/5 امریکی ڈالر فی انسٹرومنٹ

فارن کرنسی کیش جمع کرنے کے 15 دن کے اندر انورڈ کلیئرنگ کے

ذریعے نکالی گئی رقم پر 0.19 فیصد چارجز، بصورت دیگر مفت

امریکی ڈالر کے لیے، فارن کرنسی کیش جمع کرانے کے 15 دن کے

اندر کنورژن/ٹرانسفر کے ذریعے نکالی گئی رقم پر 0.19 فیصد چارجز

بصورت دیگر مفت

امریکی ڈالر کے علاوہ باقی تمام غیر ملکی کرنسیوں کے لیے غیر ملکی کرنسی

نقد جمع کرانے کے 90 دنوں کے اندر کنورژن / ٹرانسفر کے ذریعے نکالی

گئی رقم پر 0.50 فیصد چارجز، بصورت دیگر مفت

-/200 روپے فی انسٹرکشن LCY اکاؤنٹس کے لیے، اور 1 امریکی

ڈالر یا اس کے مساوی دوسری کرنسی کے FCY اکاؤنٹس کے لیے

اسٹینڈنگ انسٹرکشن کی فیس معمول کے ترسیلات زر کے چارجز

(اگر کوئی ہوں) کے علاوہ وصول کی جائیں گی۔

ص) ڈپلیکیٹ ڈیبٹ/کریڈٹ ایڈوائس، ایل سیز، سوئفٹ میسجز

وغیرہ کی اضافی کاپیوں کی فراہمی

ط) ڈپلیکیٹ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ

ع) لوس چیکس کا اجرا (برانچ منیجر کی منظوری سے مشروط)

ف) آڈیٹرز کے لیے بیلنس کی تصدیق

ق) کامیاب درخواست کی سبسکریپشن پر سروس چارجز

(مینکریز کو جاری کرنا ہے)

ک) اکاؤنٹ بند کرنے کے چارجز

گ) ٹیکس سرٹیفکیٹ کے اجرا کے چارجز

ل) بینک کے ساتھ کاروباری معاملات سے متعلق کسی بھی دوسرے

قسم کے سرٹیفکیٹ کا اجرا

م) ہولڈ میل چارجز

ن) طلبہ کیسز کے رجسٹریشن/پرمت

و) چیک بکس کا اجرا

اسلامی کرنٹ اکاؤنٹ

اسلامی خیر کرنٹ اکاؤنٹ

اسلامی سہولت اکاؤنٹ

اسلامی بچت اکاؤنٹ

ہ) مقامی امریکی ڈالر کلیئرنگ

(i) آؤٹ ورڈ:

(ii) انورڈ:

ع) غیر ملکی زرمبادلہ تبدیلی

ی) اسٹینڈنگ انسٹرکشنز

200/- روپے فی کسٹمر رپورٹ

مفت

8/- روپے فی بل یا وقتاً فوقتاً اسٹیٹ بینک / پاکستان بینکس ایسوسی ایشن

کی دی گئی ہدایت کے مطابق (بل کی رقم میں شامل)

400/- فی صفحہ اور زیادہ سے زیادہ -2,000 روپے مقامی

انسٹرومنٹس کے لیے ؛ ایف سی انسٹرومنٹس کے لیے اصل

کرسپانڈنٹ چارجز

300/- روپے ہر مرتبہ

مفت

مفت

مفت

سرمایہ کاری کی رقم کا 0.25 فیصد مع CDC چارجز اصل کے مطابق

کم از کم -2,499 روپے ، زیادہ سے زیادہ -4,999 روپے۔

100/- روپے (فلیٹ)

350/- روپے فی ٹرانزیکشن

350/- روپے فی ٹرانزیکشن مع CDC چارجز اصل کے مطابق

کوئی چارجز نہیں

کوئی چارجز نہیں

کوئی چارجز نہیں

کوئی چارجز نہیں

کوئی چارجز نہیں

اصل کے مطابق

اصل کے مطابق

اصل کے مطابق

اصل کے مطابق

(ے) شہروں کے درمیان کلیئرنگ بذریعہ NIFT

الف-الف) کریڈٹ رپورٹ چارجز / CIB آن لائن چارجز

الف-ب) ای-اسٹیٹمنٹس

الف-ج) یوٹیلٹی بل کی ادائیگی

الف-د) اسٹاپ پیمنٹ چارجز

الف-ر) پرانے ریکارڈ کی معلومات کے چارجز (برانچ منیجر کی پیشگی منظوری سے مشروط)

الف-س) ایڈریس کی تبدیلی

الف-ص) آن لائن ٹرانزیکشنز

i) کیش جمع کرانا

ii) کیش نکالنا

الف-ط) انویسٹر پورٹ فولیو سکیورٹیز: (آئی پی ایس) اکاؤنٹ

i) سالانہ ہولڈنگ چارجز (ماہانہ وصولی)

ii) اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ

iii) ٹرانزیکشن چارجز فروخت/خرید

iv) سیکیورٹی موومنٹ

الف-ع) اسکرپس لیکویٹی ٹریڈنگ

i) اکاؤنٹ کھولنے کے چارجز

الف) افراد کے لیے:

ب) کارپوریٹ کے لیے:

ii) (شیر/سیکیورٹی)

-199.99 روپے تک:

-200 روپے سے -399.99 روپے تک:

-400 روپے اور اس سے زائد:

iii) کسٹومیل چارجز (سالانہ)

الف) سیئرز کے لیے (صرف شریعت کے مطابق):

ب) TFCs کے لیے (صرف شریعت کے مطابق):

ج) حقوق کے لیے (صرف شریعت کے مطابق):

iv) شیرز ٹرانسفر چارجز (فی شیر)

اصل کے مطابق

اصل کے مطابق

اصل کے مطابق

اصل کے مطابق

اصل کے مطابق

v (شیئرز پلچ چارجز (فی شیئر)

vi (NCCPL چارجز (فی شیئر)

vii (UIN چارجز (سالانہ)

الف (افراد کے لیے:

ب (کارپوریٹ کے لیے:

viii (CDC ذیلی اکاؤنٹ کی فیس (سالانہ)

۳۔ کیش مینجمنٹ اور ایمپلائئی بینکنگ سروس چارجز

الف (کیش مینجمنٹ

”کیش مینجمنٹ پروڈکٹس (وصولی اور ادائیگی) کے تمام چارجز کا فیصلہ بینک اور کسٹمر کے درمیان معاہدے کے ذریعے کیس ٹو کیس کی بنیاد پر کیا جائے گا“

ب (ایمپلائئی بینکنگ کی خدمات - موٹر سائیکل اور پائیدار اشیا کی فنانسنگ

i (درخواست کی فیس اور پروسیسنگ چارجز

ii (دستاویزات کے چارجز

iii (ڈپلیکیٹ شیڈول / قانونی دستاویزات کی نقول

-/1,200 روپے (فی کیس) بشمول ایف ای ڈی

اصل کے مطابق

-/500 روپے

۴۔ ڈیجیٹل ڈیلیوری چینلز

الف (اجرا / سالانہ سبسکرپشن اور تبدیلی (کارڈز کے لیے)

i (کلاسک ڈیجیٹل ماسٹر کارڈ

ii (ٹائمنیم ڈیجیٹل ماسٹر کارڈ

iii (پے پاک ڈیجیٹل کارڈ

iv (انٹرنیٹ بینکنگ / موبائل ایپ

v (ایس ایم ایس بینکنگ سروس

vi (ای سٹیٹمنٹ چارجز

-/2,900 روپے

-/4,000 روپے

-/1,800 روپے

مفت

-/170 روپے ماہانہ یا -/2,000 روپے سالانہ

مفت

ب (بینک اسلامی ڈیجیٹل کارڈز - فی ٹرانزیکشن چارجز

i (پی او ایس (پوائنٹ آف سیل) خریداری

الف (مقامی پی او ایس پر بینک اسلامی کارڈ

ب (بین الاقوامی پی او ایس پر بینک اسلامی کارڈ

ii (نقد رقم نکالنا

الف (بینک اسلامی اے ٹی ایم پر بینک اسلامی کارڈ

ب (1 لنک اے ٹی ایم پر بینک اسلامی کارڈ

ج (رسید پر تنگ چارجز

د (بین الاقوامی اے ٹی ایم پر بینک اسلامی کارڈ

مفت

رقم کا 4.00 فیصد

مفت

-/35 روپے

-/6 روپے

ٹرانزیکشن کی رقم کا 4.00 فیصد

(iii) ڈیبٹ کارڈ پر انٹرنیٹ شاپنگ

الف) مقامی انٹرنیٹ مرچنٹس پر بینک اسلامی کارڈ

ب) بین الاقوامی انٹرنیٹ مرچنٹس پر بینک اسلامی کارڈ

مفت

رقم کا 4.00 فیصد

(iv) بیلنس اکوآری

الف) بینک اسلامی اے ٹی ایم پر بینک اسلامی کارڈ

ب) 1 لنک اے ٹی ایم پر بینک اسلامی کارڈ

ج) بیلنس اکوآری رسید کی پرنٹنگ چارجز

د) بین الاقوامی اے ٹی ایم پر بینک اسلامی کارڈ

مفت

6/- روپے

6/- روپے

350/- روپے

(v) IBFT (انٹرنیٹ رقوم کی منتقلی)

الف) بینک اسلامی اے ٹی ایم کے ذریعے

ب) انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے

ج) موبائل ایپ کے ذریعے

د) راست

ماہانہ -/25,000 روپے تک مفت۔ ایک ماہ میں -/25,000 روپے سے

زائد رقم پر 0.1 فیصد یا 200 روپے، جو کم ہو

مفت

(vi) بلز اور ادائیگیاں

الف) بینک اسلامی اے ٹی ایم کے ذریعے

ب) انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے

ج) موبائل ایپ کے ذریعے

د) رابطہ مرکز

مفت

مفت

مفت

مفت

(vii) 1 بل

الف) 1 بل ٹرانزیکشن

10/- روپے

ج) ڈسپوٹ پروسیسنگ چارجز: (فی ٹرانزیکشن):

i) دستاویزات بازیافت کرنے کے چارجز

الف) مقامی متنازعہ ٹرانزیکشنز

ب) بین الاقوامی متنازعہ ٹرانزیکشنز

(ii) غلط تنازعات

الف) فی ٹرانزیکشن چارجز

(iii) ثالثی کے چارجز

الف) مقامی ٹرانزیکشنز

ب) بین الاقوامی چارجز

200/- روپے

1,000/- روپے

1,000/- روپے

500/- امریکی ڈالر یا مساوی

500/- امریکی ڈالر یا مساوی

د) ون ٹچ بینکنگ

الف) ون ٹچ بینکنگ

ب) بینک کے اندر فنڈز کی منتقلی

مفت

مفت

مفت
مفت
مفت
مفت

(ج) آئی بی ایف ٹی برانچ کاؤنٹر
(د) یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی
(ر) موبائل ٹاپ اپ
(س) پے آرڈر

(ر) کال سینٹر / آئی وی آر (IVR)

مفت
مفت
200/- روپے
مفت
مفت
مفت
مفت

(الف) اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ (نئی/پرانی)
(ب) ای-اسٹیٹمنٹ کی درخواست
(ج) بیلنس/ریفرنس سرٹیفکیٹ
(د) پے آرڈر کی درخواست
(ر) بینک کے اندر فنڈز کی منتقلی
(س) ڈپازٹ اکاؤنٹ سے فیسٹیٹی اکاؤنٹ کو ادائیگی
(ص) یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی

۵۔ فنانسنگ

(الف) کنزیومر فنانس

(الف-الف) آٹو فنانس

(i) نئی گاڑی (فنانسنگ 10 ملین روپے تک)

5,000/- روپے فی درخواست گزار/کسٹمر (یف ای ڈی شامل نہیں)
اصل کے مطابق
ضروری نہیں

• پروسیسنگ فیس
• دستاویزات اور پروسیسنگ
• تشخیص

(ii) نئی گاڑی (10 ملین روپے سے زیادہ لیکن 50 ملین روپے سے کم کی فنانسنگ)

5,000/- روپے فی درخواست گزار/کسٹمر (یف ای ڈی شامل نہیں)
اصل کے مطابق
ضروری نہیں

• پروسیسنگ فیس
• دستاویزات اور پروسیسنگ
• تشخیص

(iii) پرانی (مقامی / درآمد شدہ) گاڑی (فنانسنگ 10 ملین روپے تک)

5,000/- روپے فی درخواست گزار/کسٹمر (یف ای ڈی شامل نہیں)
اصل کے مطابق
اصل کے مطابق

• پروسیسنگ فیس
• دستاویزات اور پروسیسنگ
• تشخیص

(iv) پرانی (مقامی/درآمد شدہ) گاڑی (10 ملین سے زیادہ لیکن 50 ملین روپے سے کم کی فنانسنگ)

5,000/- روپے فی درخواست گزار/کسٹمر (یف ای ڈی شامل نہیں)
اصل کے مطابق
اصل کے مطابق

• پروسیسنگ فیس
• دستاویزات اور پروسیسنگ
• تشخیص

(v) مندرجہ ذیل شیڈول کے مطابق گاڑیوں کی دوبارہ ضبطی کے چارجز

2000cc تک کی ہلکی گاڑیوں کی دوبارہ ضبطی کے لیے منظور شدہ چارجز		2000cc سے اوپر کی ہلکی گاڑیوں کی دوبارہ ضبطی کے لیے منظور شدہ چارجز	
تفصیل	چارجز	تفصیل	چارجز
شہر کی حدود میں	40,000/- روپے	شہر کی حدود میں	55,000/- روپے
شہر سے باہر (صوبے کے اندر)	45,000/- روپے	شہر سے باہر (صوبے کے اندر)	60,000/- روپے
صوبے سے باہر	50,000/- روپے	صوبے سے باہر	65,000/- روپے
2000cc تک کی ہلکی گاڑیوں کی ضبطی کے منظور شدہ چارجز برائے (NR) / گم شدہ (اسکیڈ) گاڑیاں			
تفصیل	چارجز	تفصیل	چارجز
شہر کی حدود میں	50,000/- سے 60,000/- روپے	شہر کی حدود میں	50,000/- سے 60,000/- روپے
شہر سے باہر (صوبے کے اندر)	55,000/- سے 65,000/- روپے	شہر سے باہر (صوبے کے اندر)	55,000/- سے 65,000/- روپے
صوبے سے باہر	60,000/- سے 70,000/- روپے	صوبے سے باہر	60,000/- سے 70,000/- روپے
2000cc سے اوپر کی ناقابل بازیافت / گم شدہ (اسکیڈ) بھاری گاڑیاں			
چارجز ہر معاملے کی بنیاد پر - 50,000/- سے 100,000/- تک مختلف ہو سکتے ہیں			
1 سال + ناقابل بازیافت / گمشدہ (اسکیڈ) بھاری گاڑیاں			
چارجز ہر معاملے کی بنیاد پر - 50,000/- سے 150,000/- روپے تک مختلف ہو سکتے ہیں			
محفوظ ٹرانزیکشن رجسٹری فیس			
1,040/- روپے تک (ہر رجسٹری یا اصل کے مطابق)			
بانکیس (EBS)			
شہر کی حدود میں	6,000/- روپے	شہر کی حدود میں	6,000/- روپے
شہر سے باہر (صوبے کے اندر)	8,000/- روپے	شہر سے باہر (صوبے کے اندر)	8,000/- روپے
صوبے سے باہر	10,000/- روپے	صوبے سے باہر	10,000/- روپے

(vi) رقم کی ادائیگی کے بعد گاڑی کی تبدیلی

8 فیصد تک

اصل کے مطابق

اصل کے مطابق

اصل کے مطابق

اصل کے مطابق

اصل کے مطابق

(vii) اضافی مشارکہ یونٹ کی قیمت قبل از وقت خریداری کی صورت میں

(viii) ٹریڈر چارجز (تنصیب، نگرانی کی فیس اور دیگر چارجز)

(ix) اضافی چارجز

• گاڑیوں کی سٹوریج کے چارجز

• قانونی اور انتظامی چارجز

• دوبارہ حاصل شدہ گاڑی کے لیے تشخیصی چارجز

• آمدنی کے تخمینہ کے چارجز

1,500/- روپے تک (بشمول FED)

1,000/- روپے

1,500/- روپے

• این او سی کی دوبارہ تصدیق کے چارجز

• کسٹمر کی غیر موجودگی کی وجہ سے دوبارہ تصدیق کے چارجز

• آفر لیٹر جاری ہونے کے بعد گاڑی کی تبدیلی

نوٹ: فنانسنگ کی حدود اور گاڑیوں کی اقسام قابل اطلاق اسٹیٹ بینک کے ضوابط کے تابع ہیں

الف-ب) ہاؤسنگ فنانس (مسکن)

15,000/- روپے (FED شامل نہیں)

(i) درخواست:

(ii) تشخیص (مکان / فلیٹ)

4,500/- روپے (زمین: 4,000 روپے)

9,000/- روپے

3,000/- روپے

3,000/- روپے فی وزٹ

اصل کے مطابق

7,000/- روپے

اصل کے مطابق

اصل کے مطابق

اصل کے مطابق

• 10 ملین روپے تک کی فنانسنگ

• 10 ملین سے زیادہ پراپرٹی کی قیمت

• بل آف کوانٹیفیکیشن BOQ تصدیق

• بل آف کوانٹیفیکیشن BOQ ٹرانچ وزٹ

• وکیل کی فیس

• آمدنی کا تخمینہ

• بیرونی ایجنسیوں کے وزٹ کے چارجز

(iii) مشارکہ دستاویزات

• فروخت اور دوبارہ لیز SLB کی صورت میں

(iv) اضافی مشارکہ یونٹ قیمت قبل از وقت خریداری کی صورت میں

• اجراء کے پہلے سال کے اندر ادائیگی پر

• اجراء کے پہلے سال کے بعد ادائیگی پر

(v) بیلون ادائیگی کا اختیار

• کسٹمر ہر 6 ماہ میں ایک بار بیلون رقم ادا کر سکتے ہیں، جو کم از کم

3 اقساط کے برابر ہونی چاہیے۔ خریدے جانے والے یونٹ کی

مشارکہ یونٹ قیمت کا اضافی 5%

اصل کے مطابق

(vi) ضمنی اخراجات:

الف-ج) اسلامی سیکورڈ پرنسپل فنانس

2,000 روپے + ایف ای ڈی

(i) پروسیسنگ فیس مرحلہ اول

(ابتدائی مرحلہ کی پروسیسنگ، جس میں گھر اور دفتر کی تصدیق،

آمدنی کی تصدیق، ECIB، تصدیق اور نادرا کی جانچ پڑتال وغیرہ

شامل ہیں)

* پروسیسنگ فیس ہر کسٹمر پر پیسنگی لاگو ہوگی، چاہے کیس منظور ہو یا نہ ہو۔

8,000 روپے + ایف ای ڈی

(ii) پروسیسنگ فیس مرحلہ دوم

(کریڈٹ اسٹڈی پروسیسنگ، جس میں کریڈٹ اسیسمنٹ اور کریڈٹ کی منظوری

وغیرہ شامل ہیں)

* پروسیسنگ فیس ہر کسٹمر پر پیسنگی لاگو ہوگی، چاہے کیس منظور ہو یا نہ ہو۔

اصل کے مطابق

(iii) دستاویزی چارجز

اصل کے مطابق

(iv) قیمت بندی کے چارجز

(v) اضافی مشارکہ یونٹ کی قیمت قبل از وقت خریداری کی صورت میں

بقایا مشارکہ یونٹس کا 5 فیصد

2,000 روپے درخواست کی فیس (ناقابل واپسی)
اصل کے مطابق

- (ا) 12 ماہ کے اندر - بقایا مشارکہ یونٹس پر اضافی 8 فیصد یونٹ پرائس
(ب) 13 ویں ماہ سے 24 ویں ماہ تک - بقایا مشارکہ یونٹس پر اضافی 6 فیصد یونٹ پرائس
(ج) 24 ماہ کے بعد - بقایا مشارکہ یونٹس پر کوئی اضافی یونٹ پرائس لاگو نہیں

الف- (د) بانئیک فنانس

(i) پروسیسنگ فیس

(ii) دستاویزی چارجز

(iii) قبل از وقت خریداری کی صورت میں اضافی مشارکہ یونٹ کی قیمت

الف - (ر) اسلامی ان سیکورڈ پرنسٹل فنانس

(i) پروسیسنگ فیس مرحلہ اول

(ابتدائی مرحلہ کی پروسیسنگ،

آمدنی کی تصدیق، ECIB، تصدیق اور نادرا کی جانچ پڑتال وغیرہ

شامل ہیں)

* پروسیسنگ فیس ہر کسٹمر پر پیشگی لاگو ہوگی، چاہے کیس منظور ہو یا نہ ہو۔

(ii) پروسیسنگ فیس مرحلہ دوم

(کریڈٹ اسٹڈی پروسیسنگ، جس میں کریڈٹ ایسیمنٹ اور کریڈٹ

کی منظوری وغیرہ شامل ہیں)

* پروسیسنگ فیس ہر کسٹمر پر پیشگی لاگو ہوگی، چاہے کیس منظور ہو یا نہ ہو۔

(iii) دستاویزی چارجز

الف- (س) گولڈ فنانس

(i) پروسیسنگ فیس مرحلہ اول

(ابتدائی مرحلہ کی پروسیسنگ،

آمدنی کی تصدیق، ECIB، تصدیق اور نادرا کی جانچ پڑتال وغیرہ شامل ہیں)

* پروسیسنگ فیس ہر کسٹمر پر پیشگی لاگو ہوگی، چاہے کیس منظور ہو یا نہ ہو۔

(ii) پروسیسنگ فیس مرحلہ دوم

(کریڈٹ اسٹڈی پروسیسنگ، جس میں کریڈٹ ایسیمنٹ اور کریڈٹ کی منظوری

وغیرہ شامل ہیں)

* پروسیسنگ فیس ہر کسٹمر پر پیشگی لاگو ہوگی، چاہے کیس منظور ہو یا نہ ہو۔

(iii) دستاویزی چارجز

الف - (ص) سولر فنانس

(i) پروسیسنگ فیس

پروسیسنگ فیس ہر کسٹمر پر پیشگی لاگو ہوگی، چاہے کیس منظور ہو یا نہ ہو۔

(ii) ٹکافل چارجز (سولر سولیوشن)

(iii) قانونی دستاویزات کے چارجز (صوبے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں)

(iv) قیمت بندی کے چارجز - اگر کوئی ہوں

(v) سیکورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری (STR) فیس

5,000/- روپے پیشگی

اصل کے مطابق

اصل کے مطابق

اصل کے مطابق

اصل کے مطابق

موجودہ کسٹمر - 500/- روپے نیا کسٹمر - 1,000/- روپے

قانونی چارہ جوئی کے چارجز، اصل کے مطابق

نوٹ: اس سیکشن (A) میں درج تمام پروسیسنگ فیس ناقابل واپسی ہیں اور ہر کسٹمر پر پیشگی لاگو ہوں گی، چاہے کیس منظور ہو یا نہ ہو۔

(ب) کارپوریٹ / ایس ایم ای فنانسنگ / فلیٹ فنانسنگ

ب-الف) گاڑیاں

(i) نئی گاڑیاں:

• پروسیسنگ فیس

10 ملین روپے تک = 6,000/- روپے

گورننس اینڈ کنٹرول

20 ملین روپے تک = 12,000/- روپے
30 ملین روپے تک = 18,000/- روپے
40 ملین روپے تک = 24,000/- روپے
50 ملین روپے تک = 30,000/- روپے
اصل کے مطابق

10 ملین روپے تک = 6,000/- روپے
20 ملین روپے تک = 12,000/- روپے
30 ملین روپے تک = 18,000/- روپے
40 ملین روپے تک = 24,000/- روپے
50 ملین روپے تک = 30,000/- روپے
اصل کے مطابق

5,000/- روپے فی گاڑی یا اصل کے مطابق جو بھی زیادہ ہو
رجسٹریشن کرنے والے (فہرستی) کی بتائی گئی قیمت کے مطابق
اصل کے مطابق
تکافل کمپنی کی بتائی گئی شرح کے مطابق
مذکورہ بالا گاڑیوں کی ری پوسیشن کے معیاری چارجز کے مطابق
1,000/- روپے تک (ٹیکس لاگو ہوگا)
اصل کے مطابق
1,040/- روپے تک فی رجسٹری یا اصل کے مطابق

- دستاویزات کے چارجز
- (ii) پرانی گاڑیاں (مقامی / امپورٹڈ)
- پروسیسنگ فیس
- دستاویزات کے چارجز
- قیمت بندی کے چارجز
- رجسٹریشن سروس فیس
- ای سی آئی بی رپورٹ چارجز
- تکافل چارجز
- فلیٹ ری پوسیشن چارجز
- ڈپلیکیٹ این او سی
- ایس ای سی پی چارج
- سیکیورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری (ایس ٹی آر)
- مذکورہ بالا تمام پراسیسنگ فیس ناقابل واپسی ہے اور ہر کسٹمر پر لاگو ہوگی۔
چاہے کیس منظور ہو یا نہ ہو۔

ب۔ب) دیگر آلات

15,000/- روپے
اصل کے مطابق
اصل کے مطابق

- (i) پروسیسنگ فیس
- (ii) دستاویزی چارجز
- (iii) تشخیص کے چارجز

(الف) پروسیسنگ، اسٹرکچرنگ، اور ایڈوانسری فیس: تجدید کی صورت میں، یہ مختصر مدتی سہولت (فنڈڈ/نان فنڈڈ) پر لاگو ہوگی

کارپوریٹ کسٹمرز کے لیے		ایس ایم ای کسٹمرز کے لیے	
کم از کم فیس (روپے)	سہولت (ملین روپے میں)	کم از کم فیس (روپے)	سہولت (ملین روپے میں)
20,000	50.000 تک	5,000 روپے	5 ملین تک
40,000	100.000 تک	10,000 روپے	5 ملین سے زائد 10 ملین تک
75,000	200.000 تک	20,000 روپے	10 ملین سے زائد 25 ملین تک
100,000	300.000 تک	30,000 روپے	25 ملین سے زائد 50 ملین تک
125,000	400.000 تک	40,000 روپے	50 ملین سے زائد 75 ملین تک
150,000	500.000 تک	50,000 روپے	75 ملین سے زائد 100 ملین تک
200,000	750.000 تک	75,000 روپے	100 ملین سے زائد 150 ملین تک

375,000	1,000.000 تک	100,000 روپے	150 ملین سے زائد 200 ملین تک
350,000	1,500.000 تک	150,000 روپے	200 ملین سے زائد 250 ملین تک
400,000	2,000.000 تک	200,000 روپے	250 ملین سے زائد 300 ملین تک
500,000	2,500.000 اور اس سے زیادہ	250,000 روپے	300 ملین سے زائد

*پروسیسنگ فیس ہر کسٹمر پر کیس کی منظوری یا عدم منظوری کے باوجود پیشگی لاگو ہوگی۔
**کسٹمر کی رضامندی کے مطابق زیادہ فیس عائد کی جاسکتی ہے۔ (ب) قبل از وقت خاتمے پر اضافی قیمت (اجارہ ڈمٹنگ مشارکہ معاہدے کے مطابق)

۶۔ فنانشنگ پر متفرق چارجز

الف) متفرق چارجز (یعنی بینک اسلامی دستاویزات، دستاویزات کی حفاظت، سکیورٹی کا تخمینہ اور دیکھ بھال کا جائزہ وغیرہ پر آنے والی اصل لاگت کے مطابق چارج کیے جاتے ہیں)

ب) گروی کے عوض ڈیلیوری آرڈر کا اجرا

ج) سرچ رپورٹ چارجز

د) گودام کا کرایہ / لیز پر دیے گئے اثاثوں کے معائنے کے چارجز

ر) گودام کیپر/چوکیدار

س) گودام کے معائنے کے چارجز

-/500 روپے فی ڈیلیوری آرڈر

بینک اسلامی کی طرف سے اصل لاگت کے ساتھ -/500 روپے

بینک اسلامی کی طرف سے اصل لاگت

بینک اسلامی کی طرف سے اصل لاگت

بینک کے افسر کے ذریعہ انجام دیا گیا

شہر کے اندر: -/1,200 روپے SME /کمرشل کلائنٹ کے لیے

روپے -/2,400 کارپوریٹ کلائنٹ کلائنٹس کے لیے

- شہر سے باہر - اصل کے مطابق

بیرونی وینڈر کی طرف سے منعقد اصل کے مطابق

بینک اسلامی کی طرف سے اصل قیمت

-/5,000 روپے (فلیٹ)

ص) ڈیلیوری چارجز (اگر گودام کیپر تعینات نہیں کیا جاتا ہے تو

کنوینس چارجز بھی وصول کیے جائیں گے)

ع) دوسرے بینکوں کے حق میں این او سی جاری کرنا

۷۔ سیف ڈپازٹ لاکرز

i) چابی کی ضمانت

ii) لاکر کرایہ (سالانہ) پیشگی وصول کیا جائے گا۔

• چھوٹا:

-/3,500 روپے (قابل واپسی)

-/5,000 روپے سالانہ اگر -/45,000 روپے سیکورٹی ڈپازٹ

کے طور پر رکھے جائیں تو مفت *

-/1,500,000 روپے لمٹ فی لاکر

-/7,000 روپے سالانہ

اگر -/65,000 روپے سیکورٹی ڈپازٹ کے طور پر رکھے جائیں تو مفت

2,000,000 روپے لمٹ فی لاکر

-/9,000 روپے سالانہ

اگر -/90,000 روپے سیکورٹی ڈپازٹ کے طور پر رکھے جائیں تو مفت *

-/2,500,000 روپے لمٹ فی لاکر

تکافل کوریج لمٹ

• درمیانہ

تکافل کوریج لمٹ

• بڑا

تکافل کوریج لمٹ

* لاکرز صرف سیکیورٹی ڈپازٹ کی بنیاد پر جاری کیے جائیں گے جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے، تاہم، کرائے کی بنیاد پر پہلے سے جاری کردہ لاکرز اگلی ہدایت تک جاری رہیں گے۔

* (سیکیورٹی ڈپازٹ کی رقم مضاربہ پر مبنی منافع بخش اکاؤنٹ میں رکھی جائے گی)

(iii) لاکر توڑنے کے چارجز اصل کے مطابق

۸۔ تجارتی خدمات

الف) درآمدات

الف) غیر ملکی اور مقامی لیٹر آف کریڈٹ اوپننگ

(i) کم از کم چارجز۔ 2,200/- روپے

(ii) شرعی نقطہ نظر سے، بینک L/C کھولنے سے متعلق خدمات جیسے دستاویزات، کریڈٹ کا تخمینہ، خط و کتابت، اکاؤنٹ کی دیکھ بھال، نگرانی، وغیرہ کی فیس چارج کر سکتا ہے۔

(iii) تمام L/C کی رقم جو 100 ملین روپے سے زائد ہوگی اس پر -/4,000 روپے (پہلی سہ ماہی میں) فی ایک ملین روپے (یا اس کا حصہ) اور -/2,000 روپے (بعد کی سہ ماہی کے لیے) فی ایک ملین روپے اضافی چارجز ہوں گے۔

(iv) 1,500 روپے (فلیٹ) فی ترمیم درجہ بالا سروس چارجز کے ساتھ وصول کیے جائیں گے، اگر ترمیم، رقم میں اضافہ یا L/C کی مدت میں توسیع پر مبنی ہو۔

(v) کارپوریٹ کسٹمرز سے متعلق چارجز کسٹمر اور بینک کے درمیان معاہدے کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔

(vi) موجودہ لیٹر آف کریڈٹ میں استفادہ کنندہ کی تبدیلی کی صورت میں سلیب کے مطابق L/C کا کمیشن نئے L/C کے طور پر چارج کیا جائے گا۔

(vii) لیٹر آف کریڈٹ سروس چارجز کے لیے سلیب

ایل سی کی رقم	پہلی سہ ماہی یا اس کا کچھ حصہ	اس کے بعد سہ ماہی یا اس کا کچھ حصہ
یہاں سے	یہاں تک	
800,000	3,200	1,600
800,001	4,500	2,250
1,000,001	6,250	3,125
1,500,001	8,750	4,375
2,000,001	11,250	5,625
2,500,001	13,750	6,875
3,000,001	16,250	8,125
3,500,001	18,750	9,375
4,000,001	21,250	10,625
4,500,001	23,750	11,875
5,000,001	26,250	13,125
5,500,001	28,750	14,375
6,000,001	31,250	15,625
6,500,001	33,750	16,875

ایل سی کی رقم	پہلی سہ ماہی یا اس کا کچھ حصہ	اس کے بعد سہ ماہی یا اس کا کچھ حصہ
یہاں سے	یہاں تک	
7,000,001	7,500,000	18,125
7,500,001	8,000,000	19,375
8,000,001	8,500,000	20,625
8,500,001	9,000,000	21,875
9,000,001	9,500,000	23,125
9,500,001	10,000,000	24,375
10,000,001	10,500,000	25,625
10,500,001	12,500,000	28,750
12,500,001	15,000,000	34,375
15,000,001	17,500,000	40,625
17,500,001	20,000,000	46,875
20,000,001	22,500,000	53,125
22,500,001	25,000,000	59,375
25,000,001	27,500,000	65,625
27,500,001	30,000,000	71,875
30,000,001	32,500,000	78,125
32,500,001	35,000,000	84,375
35,000,001	37,500,000	90,625
37,500,001	40,000,000	96,875
40,000,001	42,500,000	103,125
42,500,001	45,000,000	109,375
45,000,001	47,500,000	115,625
47,500,001	50,000,000	121,875
50,000,001	52,500,000	128,125

ایل سی کی رقم		پہلی سہ ماہی یا اس کا کچھ حصہ	اس کے بعد سہ ماہی یا اس کا کچھ حصہ
یہاں سے		یہاں تک	
52,500,001	55,000,000	268,750	134,375
55,000,001	57,500,000	281,250	140,625
57,500,001	60,000,000	293,750	146,875
60,000,001	62,500,000	306,250	153,125
62,500,001	65,000,000	318,750	159,375
65,000,001	67,500,000	331,250	165,625
67,500,001	70,000,000	343,750	171,875
70,000,001	72,500,000	356,250	178,125
72,500,001	75,000,000	368,750	184,375
75,000,001	77,500,000	381,250	190,625
77,500,001	80,000,000	393,750	196,875
80,000,001	82,500,000	406,250	203,125
82,500,001	85,000,000	418,750	209,375
85,000,001	87,500,000	431,250	215,625
87,500,001	90,000,000	443,750	221,875
90,000,001	92,500,000	456,250	228,125
92,500,001	95,000,000	468,750	234,375
95,000,001	97,500,000	481,250	240,625
97,500,001	100,000,000	493,750	246,875

ب) میعاد (Usance) لیل سی کے تحت بلوں کی منظوری (غیر ملکی اور مقامی)

کم از کم چارجز:

- (i) تمام منظوری کی رقم جو 100 ملین سے زائد ہوگی اس پر -/750 روپے (ماہانہ) فی ہر ایک ملین روپے (یا اس کا حصہ) اضافی سروس چارجز ہوں گے۔
- (ii) کارپوریٹ کسٹمرز کے لیے چارجز بینک اور کسٹمر کے درمیان معاہدے کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔
- (iii) اگر بل کی مدت لیل سی کی میعاد کے اندر ہو تو کوئی منظوری چارجز نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر بل کی ادائیگی لیل سی کی میعاد ختم ہونے کے بعد واجب ہو تو، لیل سی کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ سے بل کی اصل ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک مذکورہ بالا سروس چارجز لاگو ہوں گے۔
- (v) یوسنس (Usance) لیل سی سروس چارجز کے تحت بلوں کی منظوری کے سلیب:

ہر ماہ یا اس کا کچھ حصہ	بلوں کی منظوری کی رقم کی حد	
	یہاں سے	یہاں تک
975	500,001	800,000
1,350	800,001	1,000,000
1,875	1,000,001	1,500,000
2,625	1,500,001	2,000,000
3,375	2,000,001	2,500,000
4,125	2,500,001	3,000,000
4,875	3,000,001	3,500,000
5,625	3,500,001	4,000,000
6,375	4,000,001	4,500,000
7,125	4,500,001	5,000,000
7,875	5,000,001	5,500,000
8,625	5,500,001	6,000,000
9,375	6,000,001	6,500,000
10,125	6,500,001	7,000,000
10,875	7,000,001	7,500,000
11,625	7,500,001	8,000,000
12,375	8,000,001	8,500,000
13,125	8,500,001	9,000,000
13,875	9,000,001	9,500,000
14,625	9,500,001	10,000,000
15,375	10,000,001	10,500,000
17,250	10,500,001	12,500,000
20,625	12,500,001	15,000,000

ہر ماہ یا اس کا کچھ حصہ	بلوں کی منظوری کی رقم کی حد	
	یہاں تک	یہاں سے
24,375	17,500,000	15,000,001
28,125	20,000,000	17,500,001
31,875	22,500,000	20,000,001
35,625	25,000,000	22,500,001
39,375	27,500,000	25,000,001
43,125	30,000,000	27,500,001
46,875	32,500,000	30,000,001
50,625	35,000,000	32,500,001
54,375	37,500,000	35,000,001
58,125	40,000,000	37,500,001
61,875	42,500,000	40,000,001
65,625	45,000,000	42,500,001
69,375	47,500,000	45,000,001
73,125	50,000,000	47,500,001
76,875	52,500,000	50,000,001
80,625	55,000,000	52,500,001
84,375	57,500,000	55,000,001
88,125	60,000,000	57,500,001
91,875	62,500,000	60,000,001
95,625	65,000,000	62,500,001
99,375	67,500,000	65,000,001
103,125	70,000,000	67,500,001
106,875	72,500,000	70,000,001
110,625	75,000,000	72,500,001
114,375	77,500,000	75,000,001
118,125	80,000,000	77,500,001
121,875	82,500,000	80,000,001
125,625	85,000,000	82,500,001

ہر ماہ یا اس کا کچھ حصہ	بلوں کی منظوری کی رقم کی حد	
	یہاں تک	یہاں سے
129,375	87,500,000	85,000,001
133,125	90,000,000	87,500,001
136,875	92,500,000	90,000,001
140,625	95,000,000	92,500,001
144,375	97,500,000	95,000,001
148,125	100,000,000	97,500,001

(ج) لیٹر آف کریڈٹ - متفرق (غیر ملکی + مقامی)

- (i) لیٹر وے بل کی توثیق / شپنگ گارنٹی کا اجرا
- (ii) درآمدی معاہدے کی رجسٹریشن کلیکشن کی بنیاد پر
- (iii) رجسٹریشن معاہدے میں ترمیم (رقم میں کسی بھی اضافے کے مابوجود)
- (iv) دستاویزات کے ہنڈلنگ چارجز (کلیکشن، اوپن اکاؤنٹ اور ایڈوانس ادائیگی)
- (v) کریڈٹ انفارمیشن رپورٹ بشمول غیر ملکی سپلائرز/خریداریوں کی کریڈٹ رپورٹ
- (vi) تمام درآمدی بلز کی ریٹائرمنٹ
- (vii) برآمدی بلز کی بغیر ادائیگی واپسی
- (viii) مرسلاتی اخراجات کی واپسی
- (ix) درآمدی لیل سی / کنٹریکٹ رجسٹریشن پر ترسیلات
- (x) امپورٹ کلیکشن، اوپن اکاؤنٹ اور ایڈوانس ادائیگی کی واپسی
- (xi) لیٹر آف کریڈٹ کی منسوخی
- (xii) تضاد کی فیس
- (xiii) کسی بھی برنس/ایکسپورٹ/امپورٹ سرٹیفکیٹ اور فریٹ سرٹیفکیٹ کا اجرا
- (xiv) لیل سی کی دوبارہ توثیق چارجز
- (xv) موصول ختم ہونے والی GDs کے عوض اسٹیٹ بینک کی جانب سے امپورٹس ایڈوانس اور اوپن اکاؤنٹ کی منظوری
- (xvi) PAD پر نفع (اسلاک موڈ کے ذریعے)
- (xvii) EIF کے تحت نمونہ کیس / FOC شپمنٹس
- (xviii) مؤثر معاہدے کی منسوخی کے چارجز

(ب) اندرون ملک تجارت

- (i) کم از کم چارجز
- (ii) LC کی تمام رقم جو 100 ملین روپے سے زائد ہوگی اس پر -/4,000 روپے (پہلی سہ ماہی) فی ہر ایک ملین روپے (یا اس کا کچھ حصہ) اور -/2,000 روپے (بعد کی سہ ماہی کے لیے) اضافی سروس چارجز ہوں گے۔

(iii) ترمیم کی صورت میں اگر رقم میں اضافہ یا LC کی میلا میں توسیع شامل ہو تو فی ترمیم -/1500 روپے (فلیٹ) کے ساتھ مذکورہ بالا چارجز بھی وصول کیے جائیں گے۔

(iv) کارپوریٹ کسٹمرز سے متعلق چارجز: کسٹمر اور بینک کے درمیان معاہدے کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔

(ج) برآمدات:

الف) لیٹر آف کریڈٹ

(i) مشاورتی چارجز

-/3,000 روپے (فلیٹ)

-/3,500 روپے (فلیٹ)

• بی آئی پی ایل کسٹمرز کے لیے مشاورتی چارجز

• دیگر بینک کسٹمرز کے لیے مشاورتی چارجز

(ii) ترمیم کی مشاورت

• بی آئی پی ایل کسٹمرز کے لیے ترمیم

• دیگر بینک کسٹمرز کے لیے ترمیم

شریعت سے منظور شدہ طریقوں کے مطابق

-/1,000 روپے (فلیٹ)

-/1,500 روپے (فلیٹ)

-/1,000 روپے (فلیٹ)

(iii) L/C روپی بل کی گفت و شنید

(iv) تصدیق

(v) ایکسپورٹ ایل سی کی منتقلی

(ب) اگر دستاویزات دوسرے مقامی بینکوں کو محدود لیٹر آف کریڈٹ کے تحت

گفت و شنید کے لیے بھیجی جاتی ہیں

(ج) آر اینڈ ڈی / ڈی ایل ٹی ایل کی ہینڈلنگ (ڈیوٹی ڈرا بیک کلیمز)

(د) دستاویزی کلکیشنز (مقامی)

کلیم کا 0.25 فیصد، کم از کم -/1,500 روپے فی فارم-ای

0.15 فیصد کم از کم -/2,000 روپے

(ر) وصولی کی بنیاد پر بھیجی گئی برآمدی دستاویزات کے عوض سروس چارجز، جہاں ادائیگی کا احاطہ

15 پیسہ فی 100 روپے کم از کم -/2,000 روپے یا وقتاً فوقتاً نظر ثانی شدہ

-/1,500 فی کیس - ایکسپورٹ پروموشن بیورو کی طرف سے وقتاً فوقتاً

کی گئی نظر ثانی سے مشروط

-/80 روپے فی کیس - ایکسپورٹ پروموشن بیورو کی طرف

سے وقتاً فوقتاً کی گئی نظر ثانی سے مشروط

-/500 روپے (فلیٹ)

-/1,500 روپے (فلیٹ) فی کیس

-/1,000 روپے (فلیٹ) فی NOC

-/1,000 روپے فی کیس

-/2,000 فی EE/EF

-/1,000 روپے فی EFE/EIF

-/1,000 روپے (فلیٹ) کے ساتھ کوریئر چارجز، اگر کوئی ہوں۔

-/1,000 روپے (فلیٹ) فی کیس۔

مع کیونی کیشن چارجز/سولفٹ چارجز اصل کے مطابق

(ط) ڈبلیو ایچ آر سی EPRC ضمیمہ A کے اجراء کے لیے سروس چارجز

(ع) اسلامک ایکسپورٹ ری فنانس سکیم (IERS) کی پروسیجرنگ فیس

(ف) NOC-IERS برائے EE اسٹیٹمنٹ کے عوض استحقاق کے لیے

(ق) IERS حصہ اول کے تحت متبادل کیسز کی ہینڈلنگ

(ک) EE/EF جمع کرانے اور تصدیق کے چارجز

(گ) BIPL کی EIF/EFE کی PSW میں منتقلی

(ل) ایکسپورٹ ایل سی پری ایڈوانس (بشمول L/C ترمیم)

(م) دوسرے بینکوں میں وصولی کے تحت درج برآمدی بلوں کی منتقلی

0.15 فیصد کم از کم -/2,500 روپے

(ن) ایکسپورٹ کی ایڈوانس پیمنٹ وصولی پر سروس چارجز

(و) ایکسپورٹ ایڈوانس پیمنٹ کے استعمال کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کی منظوری

حاصل کرنے کے لیے سروس چارجز

(ہ) دستاویزات کی بغیر ادائیگی کے واپسی

(ء) محدود L/C کے تحت دیگر بینکوں کو گفت و شنید کے لیے بھیجے گئے دستاویزات

(ی) ای-فارم کی تصدیق کے لیے دوسرے بینکوں کو NOC

2,000/- روپے

1,000/- روپے (فلیٹ) فی دستاویز

1,000/- روپے (فلیٹ) فی کیس

1,000/- روپے (فلیٹ)

(د) لیٹر آف گارنٹی

3,000/- روپے (فلیٹ)

(الف) لیٹر آف گارنٹی کے اجرا کے لیے کم از کم چارجز

(ب) تمام گارنٹیز کی رقم جو 100 ملین روپے سے زائد ہوگی اس پر -/8,000 روپے فی

ہر ایک ملین (فی سہ ماہی یا اس کا حصہ) + -/4,000 روپے (بعد کی سہ ماہی کے لیے)

اضافی سروس چارجز ہوں گے۔

(ج) -/2,000 روپے (فلیٹ) فی ترمیم کے علاوہ مذکورہ بالا کے مطابق سروس چارجز بھی لاگو ہوں گے،

اگر ترمیم میں اضافہ، توسیع یا کسی بھی قسم کی شق میں ترمیم شامل ہو۔

1,000/- روپے

(د) علاوہ سوئفٹ گارنٹی تصدیقی چارجز

(ر) LG کے اجرا کے وقت پیشگی سروس چارجز کاٹے جائیں گے۔

(س) بینکوں (مقامی / غیر ملکی / کرسپانڈنٹ) کی طرف سے جاری کردہ کاؤنٹر گارنٹیز کے

تحت جاری کردہ گارنٹیز اور SBLC کے چارجز کا تعین ہر معاملے کی نوعیت کے

مطابق بینک کی صوابدید پر کیا جاسکتا ہے۔

5,000/- روپے (فلیٹ)

(ص) کلیم ہینڈلنگ چارجز

(ط) کارپوریٹ کسٹمرز سے متعلق چارجز کسٹمر اور بینک کے درمیان معاہدے کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔

رقم کی حد	یہاں سے	یہاں تک	بعد کی سہ ماہی یا اس کا کچھ حصہ
800,000	800,001	6,400	3,200
1,000,000	1,000,001	8,100	4,050
1,500,000	1,500,001	11,250	5,625
2,000,000	2,000,001	15,750	7,875
2,500,000	2,500,001	20,250	10,125
3,000,000	3,000,001	24,750	12,375
3,500,000	3,500,001	29,250	14,625
4,000,000	4,000,001	33,750	16,875
4,500,000	4,500,001	38,250	19,125
5,000,000	5,000,001	42,750	21,375
5,500,000	5,500,001	47,250	23,625
6,000,000	6,000,001	51,750	25,875
6,500,000	6,500,001	56,250	28,125
7,000,000	7,000,001	60,750	30,375
7,500,000	7,500,001	65,250	32,625
8,000,000	8,000,001	69,750	34,875
8,500,000	8,500,001	74,250	37,125
9,000,000	9,000,001	78,750	39,375
9,500,000	9,500,001	83,250	41,625
10,000,000	10,000,001	87,750	43,875
10,500,000	10,500,001	92,250	46,125
12,500,000	12,500,001	103,500	51,750
15,000,000	15,000,001	123,750	61,875
17,500,000	17,500,001	146,250	73,125
20,000,000	20,000,001	168,750	84,375
22,500,000	22,500,001	191,250	95,625
25,000,000	25,000,001	213,750	106,875
27,500,000	27,500,001	236,250	118,125
30,000,000	27,500,001	258,750	129,375

رقم کی حد	یہاں سے	یہاں تک	پہلی سہ ماہی کے چارجز	بعد کی سہ ماہی یا اس کا کچھ حصہ
30,000,001	32,500,000	281,250	140,625	
32,500,001	35,000,000	303,750	151,875	
35,000,001	37,500,000	326,250	163,125	
37,500,001	40,000,000	348,750	174,375	
40,000,001	42,500,000	371,250	185,625	
42,500,001	45,000,000	393,750	196,875	
45,000,001	47,500,000	416,250	208,125	
47,500,001	50,000,000	438,750	219,375	
50,000,001	52,500,000	461,250	230,625	
52,500,001	55,000,000	483,750	241,875	
55,000,001	57,500,000	506,250	253,125	
57,500,001	60,000,000	528,750	264,375	
60,000,001	62,500,000	551,250	275,625	
62,500,001	65,000,000	573,750	286,875	
65,000,001	67,500,000	596,250	298,125	
67,500,001	70,000,000	618,750	309,375	
70,000,001	72,500,000	641,250	320,625	
72,500,001	75,000,000	663,750	331,875	
75,000,001	77,500,000	686,250	343,125	
77,500,001	80,000,000	708,750	354,375	
80,000,001	82,500,000	731,250	365,625	
82,500,001	85,000,000	753,750	376,875	
85,000,001	87,500,000	776,250	388,125	
87,500,001	90,000,000	798,750	399,375	
90,000,001	92,500,000	821,250	410,625	
92,500,001	95,000,000	843,750	421,875	
95,000,001	97,500,000	866,250	433,125	
97,500,001	100,000,000	888,750	444,375	

۹۔ بین الاقوامی ترسیلات

(i) بیرونی ترسیلات

الف) FDD بشمول سونفٹ میسج

25 امریکی ڈالر (فلیٹ) یا دیگر کرنسیوں میں مساوی
اضافی چارجز:

امریکی ڈالر کے لیے، غیر ملکی کرنسی (FCY) کیش جمع کرانے کے 15 دن کے اندر نکالی گئی رقم پر 0.19 فیصد چارج ہوگا۔ بصورت دیگر مفت۔

امریکی ڈالر کے علاوہ تمام غیر ملکی کرنسیوں کے لیے غیر ملکی کرنسی (FCY) کیش جمع کرانے کے 90 دن کے اندر نکالی گئی رقم پر 0.50 فیصد چارج ہوگا۔ بصورت دیگر مفت۔

18.75 (فلیٹ) امریکی ڈالر یا دیگر کرنسیوں میں اس کے مساوی
18.75 (فلیٹ) امریکی ڈالر یا دیگر کرنسیوں میں اس کے مساوی
+ کرسپانڈنٹ چارجز اصل کے مطابق30 امریکی ڈالر (فلیٹ) یا اس کے مساوی، بشمول سونفٹ / متعلقہ بینک
کے چارجز اصل کے مطابق + مقامی ٹیکسز اور ڈیوٹیز (جو لاگو ہو)
اضافی چارجز:غیر ملکی کرنسی (FCY) کیش جمع کرانے کے 15 دن کے اندر نکالی
گئی رقم پر 0.19 فیصد چارج ہوگا، بصورت دیگر مفت۔امریکی ڈالر کے علاوہ تمام غیر ملکی کرنسیوں (FCY) کے لیے غیر ملکی
کرنسی (FCY) کیش جمع کرانے کے 90 دن کے اندر نکالی گئی رقم
پر 0.50 فیصد چارج ہوگا۔ بصورت دیگر مفت۔40 امریکی ڈالر فلیٹ یا اس کے مساوی + مقامی ٹیکس اور ڈیوٹیز
"OUR" کے بطور چارج کوڈ کے ساتھ بیرونی ترسیلات پر
پیشگی لاگو ہوں گے

اضافی چارجز:

غیر ملکی کرنسی (FCY) کیش جمع کرانے کے 15 دن کے اندر نکالی
گئی رقم پر 0.19 فیصد چارج ہوگا، بصورت دیگر مفت۔امریکی ڈالر کے علاوہ تمام غیر ملکی کرنسیوں (FCY) کے لیے غیر ملکی
کرنسی (FCY) کیش جمع کرانے کے 90 دن کے اندر نکالی گئی رقم
پر 0.50 فیصد چارج ہوگا۔ بصورت دیگر مفت۔

جاری کردہ ٹریولرز چیک کی مالیت کا 1 فیصد

ب) ڈپلیکیٹ FDD بشمول سونفٹ میسج

ج) سونفٹ میسج کے ذریعے FDD کی منسوخی

د) سونفٹ کے ذریعے FTT

"BAN" اور "SHA" کوڈ پر تمام کرنسیوں کے لیے

ث) سونفٹ کے ذریعے FTT، 'OUR' کوڈ کی صورت میں
تمام کرنسیوں کے لیے

س) غیر ملکی (فارن) ٹریولرز چیک

ص) FDDs/TCS کی خریداری

ہینڈلنگ چارجز : 55 روپے، OD خریداری کی شرح لاگو کی جائے گی۔ اگر 21 دن کے اندر ادائیگی موصول نہ ہو تو 21 دن کی مدت سے زائد ہر دن کے لیے ہر ہزار روپے پر 36 پیسے عطیہ میں دیے جائیں گے، جیسا کہ کسٹمر کے پہلے سے دستخط شدہ معاہدے کے مطابق (جو چیریٹی اکاؤنٹ میں جمع کیے جائیں گے)۔

15 امریکی ڈالر یا اس کے مساوی فی مینج (برانچ کی طرف سے وصول کیا جائے گا)

2,000/- روپے

1,000/- روپے

1,500/- روپے + سوئفٹ چارجز

اصل کے مطابق چارجز (مرسل بینک + نوٹرو چارجز / مقامی ٹیکس جب لاگو ہو)۔

ایک سال کے اندر۔ مفت۔ ایک سال کی مدت کے بعد
500/- روپے ڈپلیٹ PRC -700 روپے

مفت

475/- روپے فی دستاویز 6 ماہ تک، -1200/- روپے فی دستاویز
6 ماہ سے زیادہ پرانا (برانچ کی طرف سے وصول کیا جائے گا)

10 امریکی ڈالر

ط) سوئفٹ چارجز (ترمیم اور انکوائری پیغامات)

ع) سوئفٹ کے ذریعے LG کا اجراء

ف) سوئفٹ کے ذریعے LG ترمیم

ق) دوسرے بینک کو FCY ادائیگی کی منتقلی۔

ii) اندرونی ترسیلات

الف) عمومی:

ب) ہوم ترسیلات (کیش اوور کاؤنٹر)

ج) ترسیلات زر اور سرٹیفکیٹس / دیگر دستاویزات

• خود کار طریقے سے رجسٹرڈ ای میل پر جاری:

• دستی طور پر جاری کیا گیا (پالیسی کے مطابق)

د) اندرونی واپسی ادائیگی کے چارجز

صارف کی درخواست پر واپسی بلانا

۱۰۔ ڈاک اور مواصلات

الف) کوریئر چارجز (تمام مقامات کے لیے)

i) بین الاقوامی

ii) اندرون ملک

iii) مقامی (اسی شہر کے اندر)

ب) رجسٹرڈ پوسٹ

i) بین الاقوامی

ii) اندرون ملک

iii) مقامی (اسی شہر کے اندر)

7,000/- روپے یا اصل کے مطابق

100/- روپے فی 0.5 کلوگرام یا اصل کے مطابق (جو بھی زیادہ ہے)

60/- روپے فی 0.5 کلوگرام یا اصل کے مطابق (جو بھی زیادہ ہے)

500/- روپے فی 0.5 کلوگرام۔

60/- روپے فی 0.5 کلوگرام۔

مفت

ج) سوئفٹ چارجز

2,000/- روپے	i) لیٹر آف کریڈٹ - مکمل
1,000/- روپے	ii) لیٹر آف کریڈٹ - مختصر
1,000/- روپے	iii) لیٹر آف کریڈٹ - ترمیم
10 امریکی ڈالر (یا دوسری کرنسیوں میں اس کے مساوی)	iv) سوئفٹ چارجز - بین الاقوامی (تجارت)

گ) RTGS چارجز

مفت	Gi 100,000/- روپے اور اس سے زیادہ کی رقم کے لیے (MT102)
مفت	ii 1,000,000/- روپے اور اس سے زیادہ کی رقم کے لیے (MT103)

ز) فیکس چارجز

اصل ISD کال ریٹس فی منٹ؛ کم از کم: -/25 روپے	i) بین الاقوامی
اصل NWD کال ریٹ فی منٹ؛ کم از کم: -/15 روپے	ii) اندرون ملک
مفت	iii) مقامی

س) ٹیلی فون

اصل ISD کال ریٹ فی منٹ؛ کم از کم: -/50 روپے	i) بین الاقوامی
اصل NWD کال ریٹ فی منٹ؛ کم از کم: -/25 روپے	ii) اندرون ملک
مفت	iii) مقامی

ا۔ BIPL اسٹاف کے لیے (صرف تنخواہ کا اکاؤنٹ)

مفت	1- پے آرڈر کا اجرا
مفت	2- DD کا اجرا
مفت	3- FTT کا اجرا
مفت	4- ڈیمانڈ ڈرافٹ/پے آرڈر منسوخی
مفت	5- ڈپلیکیٹ DD/PO
مفت	6- لاکرز (چھوٹے، درمیانے، بڑے)
مفت	7- پاکستان سے باہر ڈرا کیا گیا آؤٹ ورڈ بل برائے کلیکشن (OBC)
مفت	8- OBC (پاکستان میں ڈرا کیا گیا)
مفت	9- انورڈ بل برائے کلیکشن (IBC)
50/- روپے	10- آؤٹ ورڈ FDD
اصل کے مطابق	11- FTT/FDD کی تسبیح
مفت	12- چیک کی ادائیگی روکنا

- 13- چیک بک کے گم ہونے پر ادائیگی روکنا
14- اکاؤنٹ کا ڈپلیکیٹ اسٹیٹمنٹ
15- آڈیٹرز کو بیلنس کی تصدیق
16- اکاؤنٹ دوبارہ فعال کرنے کے چارجز
17- چیک بک کا اجرا (تمام کرنسیوں کے لیے) - صرف 25 صفحات
18- PayPak ڈیبٹ کارڈ کا اجرا اور تجدید
19- کلاسک ڈیبٹ ماسٹر کارڈ
20- IBFT
21- OTP (بذریعہ ایس ایم ایس ایک وقت کا پاس ورڈ)

25,000/- روپے تک مفت (ماہانہ) 0.1 فیصد یا -200/-
روپے جو بھی کم ہو ایک ماہ میں -25,000/ روپے سے زیادہ
رقم پر -
مفت

۱۲- بینک اسلامی ترجیحی بینکنگ

الف) ترجیحی بینکنگ کسٹمر ریلیشن شپ کا معیار

ترجیحی بینکنگ کی خدمات بینک اپنی صوابدید پر اپنے کسٹمر کو پیش کرتا ہے (بشمول کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ ہولڈرز)
جو مطلوبہ اہلیت کو پورا کرتے ہیں اور درج ذیل مطلوبہ معیار کو برقرار رکھتے ہیں:

ٹوٹل ریلیشن شپ (مشرکہ) بیلنس کی ضرورت	کسٹمر کی قسم	اکاؤنٹ کی قسم (کیٹگری)
3 ملین روپے اور اس سے اوپر کا سہ ماہی اوسط بیلنس (یا فارن کرنسی میں اس کے برابر)	• انفرادی • جوائنٹ اکاؤنٹ • واحد مالک	پاکستانی روپے اور (فارن کرنسی) میں چیکنگ اکاؤنٹس اور ٹرم ڈپازٹ سٹیکلٹس کی تمام اقسام۔

نوٹ: اگر مطلوبہ معیار کو برقرار نہ رکھا گیا تو بینک اسلامی کی ترجیحی بینکنگ خدمات بند کی جاسکتی ہیں۔ اس کے بعد، خدمات کے چارجز بینک کے چارجز کے شیڈول کے مطابق لگائے جائیں گے۔

مساوی

ب) ترجیحی بینکنگ فیس پر چھوٹ

- 1- ترجیحی ٹائمنیم ڈیبٹ ماسٹر کارڈ کا اجرا
2- ترجیحی ٹائمنیم ڈیبٹ ماسٹر کارڈ کی تبدیلی
3- SMS الارٹ
4- انٹرنیٹ بینکنگ
5- موبائل پیلی کیشن
6- ای اسٹیٹمنٹ
7- پے آرڈر (PO) / ڈیمانڈ ڈرافٹ (DD) کا اجرا

مفت	8- پے آرڈر (PO) / ڈیمانڈ ڈرافٹ (DD) کی منسوخی
مفت	9- ڈپلیکیٹ پے آرڈر (PO) / ڈیمانڈ ڈرافٹ (DD) کا اجرا
مفت	10- بیلنس سرٹیفکیٹ کا اجرا
مفت	11- ڈپلیکیٹ اسٹیٹمنٹ کا اجرا
مفت	12- بینک کے درمیان فنڈز کی منتقلی
مفت	13- اسپیشل کلیئرنگ چارجز (اسی دن کلیئرنگ)
مفت	14- آن لائن بینکنگ
مفت	15- ون ٹچ بینکنگ
مفت	16- چیک بک کا اجرا
مفت	17- چیک واپسی کے چارجز
مفت	18- چیک ادائیگی روکنے کے چارجز
مفت	19- انورڈر ٹیمینٹس (اندرونی ترسیلات)
مفت	20- اسٹینڈنگ آرڈر انسٹرکشنز
مفت	21- لاکر چارجز
مفت	مفت (* دستیابی پر منحصر ہے)
مفت	کی ڈپازٹ (قابل واپسی) لاگو ہیں

ج) کنزیومر بینکنگ مصنوعات پر چھوٹ

مفت	i) اسلامی آٹو فنانس درخواست کی فیس
مفت	ii) مسکن ہوم فنانسنگ پراسیسنگ چارجز
	ترجیحی کسٹمر کے لیے برانچ میجر وقف کردہ ریلیشن شپ میجر کے طور پر خدمات انجام دے گا
	نوٹ

- دیگر تمام چارجز بینک کے موجودہ شیڈول آف چارجز کے مطابق لاگو ہوں گے
- ترجیحی بینکنگ خدمات ختم کرنے کے لیے، کسٹمر متعلقہ برانچ کو تحریری درخواست دے سکتا ہے

۱۳- بینک اسلامی مشعل - خواتین بینکنگ

الف) ڈپازٹ پروڈکٹس

خصوصیات	مشعل آسان اکاؤنٹ*	مشعل سیونگ اکاؤنٹ
چیک بک	پہلی چیک بک مفت (10 صفحات) فراہم کی جائے گی۔ اگر 30 دن کے اندر وصول کر لی جائے بصورت دیگر 20 روپے فی صفحہ چارج کیا جائے گا۔ اس کے بعد جاری کرنے پر 20 روپے فی صفحہ۔	پہلی چیک بک مفت (10 صفحات) فراہم کی جائے گی۔ اگر 30 دن کے اندر وصول کر لی جائے بصورت دیگر 20 روپے فی صفحہ چارج کیا جائے گا۔ اس کے بعد جاری کرنے پر 20 روپے فی صفحہ۔
پے آرڈر	مفت	مفت
ڈیبٹ کارڈ	ڈیبٹ کارڈ (کلاسک ماسٹر کارڈ/پے پاک) کے اجرا اور سالانہ سبسکرپشن فیس پر 50 فیصد رعایت	-/100,000 روپے کے اوسط بیلنس پر ڈیبٹ کارڈ (کلاسک ماسٹر کارڈ/پے پاک) کا مفت اجرا اور سالانہ سبسکرپشن

خصوصیات	مشعل آسان اکاؤنٹ *	مشعل سیونگ اکاؤنٹ
دیگر چارجز	تمام مفت خدمات موجودہ SOC کے مطابق لاگو ہیں، بصورت دیگر عام چارجز لاگو ہوں گے	تمام مفت خدمات موجودہ SOC کے مطابق لاگو ہیں بصورت دیگر عام چارجز لاگو ہوں گے

* اسلامی مشعل آسان Remunerative کرنٹ اکاؤنٹ

(ب) کنزیومر فنانس

(الف) آٹو فنانس

ملازمت پیشہ خواتین کے لیے خصوصی آفر

(i) کم * رینٹل ریٹس

(ii) جلد اختتام کی صورت میں اضافی خریداری قیمت پر 50 فیصد رعایت۔

(iii) پراسیسنگ فیس پر 75 فیصد رعایت۔

* شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

(ب) ہاؤسنگ فنانس (مسکن)

ملازمت پیشہ خواتین کے لیے خصوصی پیشکش

(i) کم * رینٹل ریٹس۔

(ii) درخواست پراسیسنگ فیس پر 50 فیصد رعایت۔

(iii) جلد اختتام کی صورت میں اضافی خریداری قیمت پر 25 فیصد رعایت۔

* شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

(ج) کاروبار فنانس

خواتین انٹرپرائیور: کوئی بھی کاروباری ادارہ جس میں کسی خاتون کی حصہ داری 50 فیصد یا اس سے زیادہ ہو۔

پاکستانی روپے میں سہولیات (ملین)	کم از کم فیس (پاکستانی روپے)
10 ملین تک	5,000/-

پروسیسنگ فیس:

- پروسیسنگ فیس ہر کسٹمر پر پیسگی لاگو ہوگی، چاہے کیس منظور ہو یا نہ ہو۔
- متفرق چارجز (یعنی دستاویزات، دستاویزات کی حفاظت، حفاظت کی جانچ اور اس کی دیکھ بھال وغیرہ کے لیے وصول کیے جانے والے چارجز)
- بینک اسلامی اصل لاگت کے برابر ہوں گے۔

۱۴۔ زرعی فنانسنگ(i) ٹریکٹر اور آلات کی فنانسنگ
پراسیسنگ فیس15,000/- روپے فی ٹریکٹر اور آلات (دستاویزات کے چارجز
اصل کے مطابق)(ii) دیگر فارم اور نان فارم فنانس
پراسیسنگ فیس(i) 2 ملین روپے تک -/2,500 روپے
(ii) 2.0 ملین روپے سے زائد 5.0 ملین روپے تک -/7,000 روپے
(iii) 5.0 ملین روپے سے زائد 10 ملین روپے تک -/15,000 روپے
(iv) 10 ملین روپے سے زیادہ -/25,000 روپے
(دستاویزات کے چارجز اصل کے مطابق)

(iii) وزیراعظم یوتھ اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم

(i) پراسیسنگ فیس

(ii) دستاویزات، زمین وغیرہ کی تصدیق کے لیے:

100/- روپے (دستاویزی چارجز اصل کے مطابق)
2,000/- روپے (دستاویزی چارجز اصل کے مطابق)**۱۵۔ جین Z اکاؤنٹ**

(الف) کیش ٹرانزیکشن

(i) شہروں کے درمیان اور اندرون شہر

(ii) اپنے اے ٹی ایم سے رقم نکالنا

(iii) دیگر بینک اے ٹی ایم سے رقم نکالنا

دونوں مفت

مفت

35/- روپے

(ب) ایس ایم ایس الرٹس

(i) ڈیجیٹل/ADC

(ii) کلیئرنگ

(iii) دیگر ٹرانزیکشنز

مفت

75/- روپے ماہانہ

اوپر دیے گئے چارجز میں شامل

(ج) ڈیبٹ کارڈ

(i) کلاسک ڈیبٹ ماسٹر کارڈ

مفت

(د) مقامی ترسیلات زر

(i) مینکر چیک / پے آرڈر

مفت

(ر) اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ

(i) سالانہ یا ششماہی

دونوں مفت

(س) ڈیجیٹل بینکنگ

(i) انٹرنیٹ بینکنگ اور موبائل بینکنگ سبکدوش (ایک بار اور سالانہ)

مفت

ایک بینک چارجز	تفصیلات	سیریل نمبر
مفت	اکاؤنٹ کھلوانا	1
	کرنٹ، بچت، چنٹ	
ڈیبٹ کارڈ کا اجرا اور استعمال		
1,000 روپے	پے پاک ڈیبٹ کارڈ	2
1,000 روپے	ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ	3
1,000 روپے	ڈیبٹ کارڈ کے دوبارہ اجرا کی فیس	4
لین دین کی رقم کا 4 فیصد	بین الاقوامی اے ٹی ایم سے نقد رقم نکالوانا	5
مفت	اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ	6
مفت	اکاؤنٹ کی بندش	7
مفت	کیش جمع کرانا - دوسرے شہر میں	8
مفت	کیش جمع کرانا - ایک ہی شہر میں	9
مفت	کیش نکالنا - دوسرے شہر میں	10
مفت	کیش نکالنا - ایک ہی شہر سے	11
مفت	کیش نکالنا - بینک اسلامی اے ٹی ایم سے	12
35/- روپے فی ٹرانزیکشن	کیش نکالنا - دیگر بینک کے اے ٹی ایم سے	13
مفت	ایس ایم ایس الرٹ -ڈیجیٹل	14
مفت	ڈیبٹ کارڈ کا استعمال AIK مقامی پی او ایس پر	15
مفت	ڈیبٹ کارڈ AIK بینک اسلامی اے ٹی ایم پر	16
35/- روپے فی ٹرانزیکشن	ڈیبٹ کارڈ AIK ون لنک اے ٹی ایم پر	17
6/- روپے	رسید پر تنگ کے چارجز	18
لین دین کی رقم کا 4 فیصد	ڈیبٹ کارڈ AIK بین الاقوامی اے ٹی ایم پر	19
مفت	ڈیبٹ کارڈ AIK مقامی آن لائن مرچنٹس پر	20
مفت	بینک اسلامی اے ٹی ایم پر بیلنس اکوآری	21
6/- روپے	بیلنس اکوآری کی رسید کی پر تنگ	22
350/- روپے	بین الاقوامی اے ٹی ایم پر بیلنس اکوآری	23
ماہانہ 25,000 روپے تک مفت اس کے بعد 0.1 % یا 200 روپے جو کم ہو	بینک اسلامی اے ٹی ایم کے ذریعے آئی بی ایف ٹی	24
مفت	ای کامرس ٹرانزیکشن	25
مفت	آئی بی ایف ٹی بذریعہ راست	26

سیریل نمبر	تفصیلات	ایک بینک چارجز
1	AIK تا AIK) رقم کی منتقلی	مفت
AIK اکاؤنٹ سے کسی دوسرے بینک اکاؤنٹ میں رقم منتقلی		
2	AIK تا AIK) رقم کی منتقلی	مفت
3	آئی بی ایف ٹی (بینکوں کے درمیان رقم کی منتقلی) ماہانہ 25,000 روپے تک	ماہانہ 25,000 روپے تک مفت اس کے بعد 0.1% یا 200 روپے جو کم ہو
4	فرد سے فرد کو رقم منتقلی بذریعہ راست	مفت
5	موبائل بینکس / ٹاپ اپ	مفت
6	یو ٹیلیٹی بلوں کی ادائیگی	مفت
7	رقم کی درخواست	مفت
8	تخفے کی رقم	مفت
9	زکوٰۃ کی ادائیگی	مفت
10	عطیات / چندہ	مفت
11	AIK مرچنٹ کیو آر ادائیگیاں	مفت
12	راست مرچنٹ کیو آر ادائیگیاں (دیگر بینک)	مفت
13	کیو آر / ٹل ادائیگیاں وصول کرنے پر معیاری ایم ڈی آر	0%
14	وصول ہونے والے آئی بی ایف ٹی پر معیاری ایم ڈی آر	0%
15	AIK اکاؤنٹ سے موصول ہونے والی رقم پر معیاری ایم ڈی آر	0%
ان چارجز کو صورت حال کے لحاظ سے معاف کرنا AIK کا صوابدیدی اختیار ہے جو شریعہ بورڈ کی پیشگی منظوری سے مشروط ہے۔		

۱۷۔ ہمسفر – سفر ابھی، ادائیگی بعد میں

(i) پراسیسنگ فیس اصل کے مطابق، شریعہ بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔

۱۸۔ نوٹس

- (الف) اسٹامپ ڈیوٹی / ایف ای ڈی اگر کوئی ہے تو ایف بی آر کے ضوابط کے مطابق بینک کے مذکورہ بالا چارجز کے علاوہ وصولی کی جائے گی۔
- (ب) تمام چارجز حکومتی ٹیکس سے مشروط ہیں جن میں وقتاً فوقتاً اعلان / ترمیم کی جاسکتی ہے۔
- (ج) انتظامیہ کی صوابدید پر کسٹمرز کو رعایت یا چھوٹ دی جاسکتی ہے۔ شریعہ بورڈ کی پیشگی منظوری سے مشروط ہے۔
- (د) کرنٹ اکاؤنٹس 'قرض' پر مبنی ہیں، لہذا بینک کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کو کسی بھی سہولت پر اضافی فائدہ یا چھوٹ فراہم نہیں کرے گا۔
- (ر) ایسے چارجز، بشمول بیرونی اخراجات، جو اس شیڈول میں شامل نہیں ہیں، انہیں ہر کیس کی بنیاد پر الگ سے وصول کیا جائے گا (مقامی شریعہ بورڈ کے ممبر کی پیشگی منظوری سے مشروط)۔